

FA Part 2 Home Economics Chapter 2 Online MCQ's Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	حرارت کو کون سی مقدار پائی کے درجہ حرارت کو ایک سیٹھی گریڈ تک بڑھاتی ہے۔	A. ایک کلو گرام B. چار کلو گرام C. اٹھ کلو گرام D. دس کلو گرام
2	انڈے اور اس سے بنی ہوئی غذاوں میں مکمل پروٹین کے علاوہ وثامن ہے۔	A. اے، فولاد اور کلائیم B. بی، سی، ڈی C. بی، فولاد اور کلائیم D. کوئی نہیں۔
3	جب غذائیت کی کمی حد سے بڑھ جائے تو انسان کی جو صورتحال پوچھتی ہے اسے	A. فربیکل نیوٹریشن B. کیمیکل میں نیوٹریشن C. الف اور ب دو نون D. کوئی نہیں۔
4	کچھ لوگ کون سی مشقت سے زیادہ زندگی کام کرتے ہیں۔	A. نفسیاتی مشقت B. زندگی مشقت C. جسمانی مشقت D. کوئی نہیں۔
5	بماری غذا میں کتنے غذائی اجزاء ہیں۔	A. تین B. چار C. چھ D. نو
6	خوارک کا انتخاب کرتے ہوئے کیا چیز قدرتی طور پر خود ہی اثر انداز ہوتی ہے۔	A. پائی B. موسم C. ماحول D. آب و پوا
7	متوازن غذا سے مراد ہے۔	A. تمام اجزا کم ہوں B. تمام اجزا زیادہ ہوں C. تمام اجزا مناسب مقدار میں ہو D. کوئی نہیں۔
8	زمین کے اندر اگکے والی چیزیں ہیں۔	A. کیلا، الو، شکرکنڈی B. الو، شکرکنڈی C. مٹر، بیزار D. کوئی نہیں۔
9	غذا کو استعمال کرتے ہوئے انسان کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔	A. دولت کا B. عمر کا C. عقل کا D. صفائی کا
10	بماری تدرسی اور صحت کا دارو مدار ہے۔	A. آب و پوا پر B. پائی پر C. نسلستہ پر D. متوازن غذا پر